



ویمنز ٹی ٹورنامنٹ جمعرات سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا

- تین ٹیموں پر مشتمل ایونٹ 9 سے 16 جنوری تک کھیلا جائے گا
- ایونٹ کا فائنل برقی قمقموں کی روشنی میں ہوگا جو لائیو اسٹریم کیا جائے گا
- ایونٹ کا انعقاد آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاریوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا، عروج ممتاز

لاہور، 07 جنوری 2020ء:

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2020 کی تیاریوں کے سلسلے میں سہ فریقی قومی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعرات سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔

قومی ٹرائنگولر ویمنز ٹی ٹونٹی ویمنز چیمپئن شپ آٹھ روز تک جاری رہے گی۔ سہ فریقی ایونٹ میں پی سی بی بلاسٹرز، پی سی بی ڈائنمائٹس اور پی سی بی چیلنجرز کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔

ایونٹ کا فائنل 16 جنوری کو برقی قمقموں کی روشنی میں کھیلا جائے گا۔ خواتین کرکٹ کے فروغ کی غرض سے ایونٹ کا فائنل پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔

ٹورنامنٹ میں شائقین کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت ہوگا۔ کرکٹ کے مداحوں کے لیے حنیف محمد اور جاوید میانداد انکلوزرز کے دروازے کھلے ہوں گے۔

ایونٹ کی فاتح ٹیم کو پانچ لاکھ اور رنرزاپ کو اڑھائی لاکھ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔

پلیئر آف چیمپئن شپ کو پچیس ہزار جبکہ ہر میچ میں پلیئر آف دی میچ کو دس ہزار روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔

عروج ممتاز، چیئر آف نیشنل ویمنز سلیکشن کمیٹی :

چیئر آف نیشنل ویمنز سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایونٹ کا انعقاد آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاریوں میں مددگار ثابت ہوگا، انہوں نے کہا کہ ایونٹ میں شریک خواتین کرکٹرز اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے قومی خواتین کرکٹ ٹیم میں جگہ بنا سکتی ہیں۔

عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ 2020 میں پاکستان کو اپنے دو میچز فلڈ لائٹس میں کھیلنے ہیں جس کے باعث قومی ویمنز ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا فائنل بھی برقی قمقوں کی روشنی میں منعقد کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ ایونٹ کا فائنل لائیو اسٹریم ہونے سے ملک میں خواتین کرکٹ کو فروغ ملے گا۔

شیڈول:

- 9 جنوری بروز جمعرات: پی سی بی بلاسٹرز بمقابلہ پی سی بی ڈاننا مائٹس، بوقت دوپہر 12 بجے، میچ ریفری: احمر سعید، آن فیلڈ امپائرز: خالد محمود سینئر اور نذیر بٹ
- 10 جنوری بروز جمعہ: پی سی بی بلاسٹرز بمقابلہ پی سی بی چیلنجرز، بوقت دوپہر 12 بجے، میچ ریفری: علی گوہر، آن فیلڈ امپائرز: امتیاز اقبال اور سلیمہ امتیاز
- 11 جنوری بروز ہفتہ: پی سی بی ڈاننا مائٹس بمقابلہ پی سی بی چیلنجرز، بوقت دوپہر 12 بجے میچ ریفری: اطہر لائق، آن فیلڈ امپائرز: آلے حیدر اور عبدالقیوم
- 12 جنوری بروز اتوار: پی سی بی ڈاننا مائٹس بمقابلہ پی سی بی بلاسٹرز، بوقت دوپہر 12 بجے، میچ ریفری: امیر الدین انصاری، آن فیلڈ امپائرز: شمیم انصاری اور شکیل احمد
- 13 جنوری بروز پیر: پی سی بی چیلنجرز بمقابلہ پی سی بی بلاسٹرز، بوقت دوپہر 12 بجے، میچ ریفری: علیم موسیٰ، آن فیلڈ امپائرز: طاہر رشید اور عزیز الرحمن
- 14 جنوری بروز منگل: پی سی بی چیلنجرز بمقابلہ پی سی بی ڈاننا مائٹس، بوقت دوپہر 12 بجے، میچ ریفری: محمد جاوید، آن فیلڈ امپائرز: عمران جاوید اور نزہت سلطانہ
- 16 جنوری بروز جمعرات: فائنل، بوقت شام 7 بجے، میچ ریفری: افتخار احمد، آن فیلڈ امپائرز: خالد محمود سینئر اور امتیاز اقبال

اسکواڈز:

پی سی بی بلاسٹرز:

رامین شمیم (کپتان)، عالیہ ریاض، انعم امین، عائشہ نسیم، حرینہ سجاد، جویریہ خان، جویریہ رؤف، ماہم طارق، نتالیہ پرویز، نیہاشرمین، نورین یعقوب، صدف شمس، سدرہ نواز اور طوبہ حسن۔

ٹیم آفیشلز:

وقار اورکزئی (کوچ)، شاکر قیوم (اسسٹنٹ کوچ)، ملائکہ منصور (منیجر) اور رفعت اصغر گل (فزیوتھراپسٹ)۔

پی سی بی چینجرز:

بسمہ معروف (کپتان)، ایمن انور، عروب شاہ، عائشہ ظفر، فاطمہ ثناء، حفصہ خالد، منیبہ علی، نجیہ علوی، ندا ڈار، صبا ۛ نذیر، سعیدہ اقبال، وحیدہ اختر، حفصہ امجد اور خدیجہ چشتی۔

ٹیم آفیشلز:

عامر اقبال (کوچ)، شاہد محمود (اسسٹنٹ کوچ)، عائشہ جلیل (منیجر) اور صائمہ ملک (فزیوتھراپسٹ)۔

پی سی بی ڈاننامائٹس:

ناہیدہ خان (کپتان)، ڈیانہ بیگ، فریحہ محمود، غلام فاطمہ، ارم جاوید، کائنات حفیظ، کائنات امتیاز، لبنا بہرام، معصومہ جعفری، نشرہ سندھو، عمیمہ سہیل، ثناء میر، سدرہ امین اور ام ہانی۔

ٹیم آفیشلز:

کامران حسین (کوچ)، علی نیازی (اسسٹنٹ کوچ)، رابیل خالد (منیجر) اور ساجدہ فجر (فزیوتھراپسٹ)۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk